

(۶۹) درود مکرم

یہ درود بہترین فوائد کا حامل ہے۔ جو شخص اسے کثرت سے پڑھے اسے اللہ کی طرف سے پانچ انعام ملیں گے۔ پہلا انعام یہ کہ پڑھنے والے پر اسرار دروز مظاہر ہوں گے اور اسے سچے خواب آئیں گے۔ دوسرا انعام یہ کہ اسے گھر بار میں عزت حاصل ہوگی۔ تیسرا انعام یہ کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ چوتھا انعام یہ اسے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے مقدس مقامات کی زیارت سے مشرف ہوگا اور پانچواں انعام یہ کہ اس کے گھر کاروبار اور دیگر کاموں میں برکت پیدا ہو جائے گی اور جو شخص حصول روحانیت کی غرض سے اسے بعد نماز عشاء گیارہ مرتبہ پڑھے اسے مرشد کامل مل جائیگا جو اسے روحانیت کی منازل پر گامزن کر دے گا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ بِحُرِّ

اسے اللہ! درود بھیج حضرت محمد پر اور آپ کی آل پر جو تیرے

انوار کا سمندر ہیں اور تیرے اسرار کی کان ہیں جو تیری توحید کی دلیل کی زبان

عروس مملکتک و امام حضرتک و خاتم

ہیں اور تیری مملکت کے دو لہا ہیں اور تیری بارگاہ عزت کے امام ہیں اور تیرے انبیاء

اَبْيَاكَ صَلَوةً تَدُوْمُ رِبْدًا وَاِمَاكَ وَتَبْقَى بِبِقَاعِكَ

کے خاتم ہیں ایسا درود جو ہمیشہ رہے تیرے دوام تک اور باقی رہے تیری بقا تک

صَلَوةً تُرْضِيكَ وَتُرْضِيهِ وَتَرْضَى بِهَا عَنَّا يَا اَرْحَمَ

ایسا درود جو راضی کرے تجھ کو اور راضی کر دے حضور کو اور راضی ہو جائے تو اس کی برکت

الرَّاحِمِيْنَ ۝ اللّٰهُ رَبُّ الْجَلِّ وَالْحَرَامِ وَرَبُّ الْمَشْعَرِ

سے ہم سے یا ارحم الراحمین اے اللہ! اے مالکِ جَلِّ و حَرَامِ اور مالکِ مشعر

الْحَرَامِ وَرَبُّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَرَبُّ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ

حرام کے اور مالکِ بیتِ الحرام کے اور مالکِ رُكْنِ اور مقام کے

اَبْلِغْ لِسَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّنَّا السَّلَامَ ۝

پہنچا ہمارے آقا اور مولا محمد کو ہماری طرف سے سلام